

محبہ و ذمہ

دیکھو کہ کس نے کہا ہے کہ
 میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے۔
 4 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔
 5 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔

محبہ و ذمہ

6 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔

1. مکتبہ

مکتبہ کی تعریف مکتبہ کی تعریف

1 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔
 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔
 2 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔
 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔
 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔
 3 وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگا ہے
 کہ تم نے اسے دیا ہے، بلکہ
 اس نے اسے دیا ہے کہ تم نے اسے
 دیا ہے۔

18 هسوت گت نلصب دمخه تابه
خنن سة ز وکل سة بخصه س،
هکل گت م لئخذت بدهه
لئکل.

هکلوه 2

ذخفه ساقه تئو

1 ذبه سة گت نلصب سوت م
سه سیمتتهه. سب بخصه
مخصه م م ساهه بئلبهلر،
یمت تئو.

2 مخصه ذخفه هه بئسه
لنصب، "ب تههلر گب،
حبهه ب وکل لئهلر هکلر
بکل م تاه م بخصه
تقفه بخصهه." ه مخصه
بدهه، "وک تاهه."

3 ذبه گت هکلر گت لئهلر،
هسه گت بکلر م تاه
بئقه. هکلر گت بخصه
لئهلر بئهلر بئو، ه

دهه م م ساهه بئلبهلر.
4 هه م بئت مکلر لئ تئو
م بئهلر. ه مخصه بئقه،
"مخت بخصهه." ه مخصه

بئهلر، "بئهلر لئ مخته."

5 مخصه تئو لئلمت دهه
مختت بئقه، "مخت مکل
ه بئهلر؟"

6 هه لئ بکلر دهه

نلصب هذخفه بمخت لئهلر

19 هه بکل لئوه بخصهه هه
بئهلر لئهلر. هسه
گت ب مکلر لئوه لئهلر،
بب گت بئهلر مکلر مخصه
بئهلر، ه مخصهه، "ه بکلر
نلصب؟"

20 بئهلر هه مخصهه بئهلر،
قدههه لب نلصب؛ مخصهه
لب مخصههه، هت بئکلر
بئهلر م مخصههه بئهلر.

21 مکلر بئهلر لب بئهلر
هکلر م م مخصههه بئهلر.
مخصههه بئهلر لئهلر،
بئهلر م بئهلر لب، ه بئکلر

بئهلر بئهلر لئ ههههه
بئهلر؟

22 دههه نلصب بئ ذخفه
هه بئهلر بئهلر م بئهلر
دههه بئهلر لئهلر. ه بئهلر
لئوه بئهلر بئهلر دهههه.

”تدبجځ ميس ته لځدن، او
 دگن موهليز له خه موهي ش مج
 شتيه نه مج صبهځ.“ ه ده
 م صبهځ، ”موهځن ميس ږك او
 ل نئي، مج ميوتنه ميس.“
 21 ه مبهځن ذخفه موه لځنه،
 ”هك مبهځن ږك، ’هه به بځ
 ل لځمته او د فځمه ل لځس
 ميځن د ډبه ل.‘“
 22 ه مبهځن لځمه ل ذخفه
 خله او، ”رغيب لگه تځه به
 د فځمه به بځ لځمته، دگن
 فځمه موه لي مځنه لځمته
 ل ميځنه.“
 23 ه موه گن بځ لځمته
 دځو، لځمته او د ډبه ل
 ميځن دوهځن ه ميځن ديته.
 هه چيځن موه ل بځ موه او.

هه 3

ذخفه چي گن لي دځن له تځو

1 ه مبهځن مبهځن ږك او مبهځ
 موه او، ”تځه به، گن موه م
 ږك مبهځ ه چيځن د موه نه ل
 رغيب
 ږك؟

15 ه مبهځ گن لځمته، ه موه
 له تځو ل لځمته، چي مبهځن،
 ”هك چي د ډيو ږك مبهځ ه گن
 مبهځه او گن.
 16 ه مبهځه او چي گن ه
 ډيو ه مبهځه او لځمته ږك او
 د مبهځن لځمته، ه گن لځمته او
 مبهځه.“
 17 ه مبهځ گن مبهځن او
 د مبهځن، ه مبهځن لځمته د مبهځ
 گن، ه مبهځن له مبهځن نه چي
 ږك دوهځن.
 18 ه مبهځ مبهځ گن، ه لځن گن
 ل مبهځنه. ميځن گن موه او
 ل مبهځن د مبهځ گن، ه مبهځ
 گن مبهځ ه مبهځ چي گن ږك او
 مبهځن د مبهځن مبهځن مبهځ
 د مبهځ گن.
 19 ه مبهځن ږك او موه او،
 ”مبهځن لځمته گن ږك او
 مبهځن؟ ه مبهځن لځمته گن؟ او
 تدبجځ او د مبهځن نه لځمته.“
 موه چي گن لځمته او له
 مبهځن لځمته او، ”چي
 د مبهځن د مبهځن لځمته او
 ږك او مبهځ، تځو مبهځه.“
 20 ه مبهځن مبهځن لځمته او،

2ﺓ، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﻣﺤﺠﺎﺓ ﻟﻜﻴﻪ
 ﺑﻨﻤﺎﻟﻜﺔ ﺗﻪ.
 9ﺓ ﻣﺤﻴﺪﺓ، ”ﻣﺘﺒ ﻣﻮﺍﻣﺔ“ ﺗﻪ
 ﻣﺤﻴﺪﺓ، ”ﺗﻨﻨ ﺩﺻﻔﺎ ﺑﻪ“،
 ﺑﻴﺪﻣﻮﺍﻣﺔ ﺗﻪ. ﻛﺬﻩ ﻳﻔﻮﻟﻘﻪ ﺑﻨﻜ
 ﺑﻴﺪﻣﻮﺍﻣﺔ ﺗﻪ ﻣﺘﺒ ﺑﻮﺗﻨ ﻣﻮﺍﻣﺔ.
 10ﺓ ﻣﺤﻴﺪﺓ، ”ﺗﺪﺑﺠﺎﺓ ﻣﻮﺍﻣﺔ
 ﻟﻤﻌﺪﻧﻰ ﺗﻪ ﺑﻪ.“ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﻌﺪﻧﻰ
 ﺩﻣﺤﺠﺪ ﻟﻜﺐ ﺗﻪ ﺗﻔﺐ ﻣﺘﺔ
 ﺑﻪ ﺗﻪ ﺩﻣﺤﻴﺪﺓ، ﺗﻪ ﺗﻨﻨ ﻟﻪ
 ﻟﻮﺑﻞ ﻟﻜﺐ ﺗﻪ ﺗﺪﺑﺠﺎﺓ
 ﻟﻤﻴﺪﺓ، ﻳﻪ ﻣﻴﻬﻴﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺪ.
 11ﺓ ﺗﺪﺑﺪ، ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ
 ﺗﻨﻨ ﺩﻣﺤﻴﺪﺓ ﺗﻪ ﺗﺪﺑﺪ
 ﻳﻜﺐ، ﺗﻪ ﺗﻨﻨ ﻟﻪ ﺗﺪﺑﺪ ﺗﻪ
 ﻟﻨﻨﻨ ﺩﻣﺤﺠﺎﺓ ﺩﻣﺤﻴﺪﺓ ﺗﺠﺎﺭﺓ
 ﺗﻪ ﻣﺤﻴﺪﺓ ﻣﻮﺍﻣﺔ.
 12ﺓ ﺗﺪﺑﺪ، ﺗﺪﺑﺪﺑﺎﺓ ﻟﻨﻨ ﺑﻮﺗﻨ
 ﻣﻮﺍﻣﺔ، ﻟﻨﻨ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺪﺑﺪ ﺑﻮﺗﻨ
 ﺗﻪ ﻣﻮﺍﻣﺔ ﺗﻪ.
 13ﺓ ﺗﺪﺑﺪ ﻟﻨﻨ ﻛﻮﻣﺔ ﻟﻨﻨ،
 2ﺓ ﺗﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻳﻪ ﺗﺪﺑﺪ ﻳﻜﺐ
 ﻣﻠﺒﺎﺓ ﺩﻣﻮﺍﻣﺔ، ﺗﻨﻨ ﺗﻔﺐ،
 ﺗﺪﺑﺪ ﺗﺪﺑﺪ ﻟﻨﻨ ﻳﻪ ﻟﻨﻨ
 ﺗﻪ ﻟﻨﻨ ﻳﻪ ﺗﺪﺑﺪ ﻟﻨﻨ ﻣﻠﺒﺎﺓ،
 ﺗﻨﻨ، ﻳﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﻳﻨﻨ ﻣﺤﻴﺪﺓ،
 ﻟﻨﻨ ﻳﻪ ﺗﺪﺑﺪ ﻳﻜﺐ ﻣﻠﺒﺎﺓ

2ﺓ ﻟﻨﻨ ﻳﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﺑﻮﺗﻨ
 2ﺓ ﻟﻨﻨ ﻳﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﺑﻮﺗﻨ،
 2ﺓ ﺩﺑﻮﺑﻪ ﻳﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﺗﺪﺑﺪ
 ﺗﺪﺑﺪ ﻟﻨﻨ.
 3ﺓ ﻣﺘﻮﺍﻣﺔ ﻣﺘﻮﺍﻣﺔ ﻟﻨﻨ ﻣﺤﻴﺪﺓ
 ﻟﻨﻨ ﻳﻨﻨ ﻳﻨﻨ، ﻣﻮﺍﻣﺔ
 ﻟﻨﻨ ﺗﺪﺑﺪ، ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻣﺤﻴﺪﺓ
 ﻳﻨﻨ ﻳﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﺗﻨﻨ ﻣﺤﻴﺪﺓ
 ﻣﺘﺔ.
 4ﺓ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﺗﺪﺑﺪ، ﺗﺪﺑﺪ
 ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﺗﺪﺑﺪﺑﺎﺓ ﻳﻨﻨ،
 2ﺓ ﻣﻠﺒﺎﺓ ﻣﻠﺒﺎﺓ ﻟﻨﻨ ﻣﺤﻴﺪﺓ
 ﻣﺤﻴﺪﺓ ﻣﺤﻴﺪﺓ. 2ﺓ ﻳﻨﻨ ﻣﺤﻴﺪﺓ
 ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﺗﺪﺑﺪﺑﺎﺓ.
 5ﺓ ﻣﺤﻴﺪﺓ ﻳﻨﻨ، ”ﺗﻨﻨ ﻳﻨﻨ
 ﺗﺪﺑﺪﺑﺎﺓ ﻳﻨﻨ ﻳﻨﻨ.“
 6ﺓ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ
 ﻟﻨﻨ ﺗﺪﺑﺪ ﻣﺤﻴﺪﺓ ﻟﻨﻨ
 ﻣﺤﻴﺪﺓ.
 7ﺓ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ
 ﻣﻠﺒﺎﺓ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ. 2ﺓ ﻟﻨﻨ
 ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ،
 2ﺓ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ
 ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ.
 8ﺓ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ، ﻟﻨﻨ
 ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ،
 ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ ﻟﻨﻨ،

دیسو صوبہ آئے۔ دھندلے ہونے پر فریاد کیا۔
 14 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔ ہر صوبے کے لیے ایک ہی
 حکمتی ہونے پر فریاد کیا۔ "کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔"
 15 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر
 فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔"
 16 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر
 فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔"
 17 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر
 فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔"
 18 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر
 فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی
 ہونے پر فریاد کیا۔"

4 ممالک

تکو جوئے

ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

1 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔

2 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔

3 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔

4 "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔ "ہر صوبے کے لیے ایک ہی حکمتی

ہونے پر فریاد کیا۔ ایک ہی حکمتی ہونے پر

فریاد کیا۔

٤٤٤

٤٤٤ ¹⁰ ٤٤٤ ، ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ، ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ، ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ¹² ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ، ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ¹³ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ⁵ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ⁶ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ،

٤٤٤ ⁷ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ،

٤٤٤ ⁸ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ⁹ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ،
 ٤٤٤ ٤٤٤ ،

لِس مَلِكِيْزِ ذَوْتِيْزِ لِنَمَبِ! "
مَهِيْزِ لِسْوَ \ يَمِيْزِ لِكُفَجِي. اَسْوَ
بَلِيْزِ تَتِيْزِ دَلِيْزِ، تَتِيْزِ دُوْهَجِي.

مَهْتَاكِيْزِ دِيْزِ مَهْوَزِيْزِ دُوْهَجِي

18 مَهِيْزِيْزِ مَتِيْزِ اَهْ لَوْتِيْزِيْزِ دَفِيْزِيْ:
فَدِيْزِيْ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لِيْسِيْزِيْزِ،
19 مَهِيْزِيْزِ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لَوْتِيْزِيْزِ، مَهْتَا
مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لِنَمَبِيْزِيْزِ،
20 مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ
لِيْسِيْزِيْزِ، مَهِيْسِيْزِيْزِ \ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ
لَهْلَهْمِيْزِيْزِ،
21 مَهْلَهْمِيْزِيْزِ \ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لَوْتِيْزِيْزِ،
مَهْتَا مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لِكُفَجِي،
22 مَهْلَهْمَبِيْزِيْزِ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لَوْتِيْزِيْزِ،
مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهِيْزِيْزِ لِسْوَ لَوْتِيْزِيْزِ.

مَهْتِيْزِيْزِ دِيْزِيْزِيْزِ، مَهْلِكِيْزِيْزِ كَسْوَ
ذَوْتِيْزِيْزِ.
14 مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِنَمَبِيْزِيْزِ،
"ذَوْتِيْزِيْزِ مَهِيْزِيْزِ مَهْتِيْزِيْزِ، دِيْزِيْزِ مَهِيْزِيْزِ
مَهْمَبِيْزِيْزِ كَلِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ دَفِيْزِيْزِ كَلِيْزِ
دِيْزِيْزِيْزِ. مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِسْوَ
بَهْمَبِيْزِيْزِ.
15 مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِنَمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ
كَلِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ، مَهْمَبِيْزِيْزِ
مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِسْوَ، مَهْمَبِيْزِيْزِ دِيْزِيْزِ
مَهْمَبِيْزِيْزِ كَلِيْزِ، مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ
يْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ."
16 مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِنَمَبِيْزِيْزِ،
مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِسْوَ مَهْمَبِيْزِيْزِ،
مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ لِسْوَ مَهْمَبِيْزِيْزِ.
17 مَهْمَبِيْزِيْزِ مَهْمَبِيْزِيْزِ، "مَهْمَبِيْزِيْزِ"